

برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں 26 اپریل 2021 سے لاگو ہونے والی تبدیلیاں

برامپٹن، آن (12 اپریل 2021) - برامپٹن ٹرانزٹ کے درج ذیل روٹس میں 26 اپریل 2021 سے تا حکم ثانی کچھ تبدیلیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارا ٹرانزٹ سسٹم لوگوں کو شہر میں زیادہ مؤثر طور پر نقل و حمل فراہم کر رہا ہے:

- **505 زوم بوویرڈ:** دوران ہفتہ اور بروز ہفتہ کے شیڈول
- **1 کوئین:** اتوار کے شیڈول
- **3/3A مک لافلن:** دوران ہفتہ، بروز ہفتہ اور اتوار کے شیڈول
- **5/5A بوویرڈ:** دوران ہفتہ، بروز ہفتہ اور اتوار کے شیڈول
- **6 جیمز پوٹر:** دوران ہفتہ کے شیڈول
- **9 ووٹین:** دوران ہفتہ، بروز ہفتہ اور اتوار کے شیڈول
- **18 ڈکسی:** دوران ہفتہ کے شیڈول
- **19 فرن فارسٹ:** دوران ہفتہ کے شیڈول
- **26 ماؤنٹ پلیزنٹ:** دوران ہفتہ اور بروز ہفتہ کے ایڈجسٹ شدہ شیڈول
- **51 بیئر فورڈ:** روابط میں بہتری لانے کے لیے برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل سے دوران ہفتہ رات 11 بجے کے روٹ کی روانگی کو رات 11:09 پر رکھ دیا گیا ہے
- **54 کاؤنٹی کورٹ:** دوران ہفتہ، بروز ہفتہ اور اتوار کے شیڈول

براہ کرم سفر سے پہلے روٹس کے شیڈول ملاحظہ کر لیں۔ برامیلا، برامپٹن گیٹ وے اور ڈاؤن ٹاؤن ٹرمینلز میں ٹرمینل کی عمارت کے اوقات کار صبح 6 تا رات 9 ہوں گے۔ ٹرنٹی کامنز ٹرمینل بدستور بند رہے گا۔ ٹرمینلز کے کسٹمر سروس اوقات کار کے بارے میں جاننے کے لیے، براہ کرم www.bramptontransit.com ملاحظہ کریں۔

اپنی کمیونٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہو گا۔ براہ کرم یاد رکھیں:

- ٹرمینلز اور بسوں پر چہرے ڈھانپنے کی اشیاء یا نان میڈیکل ماسک پہننا لازمی ہیں - استثنائی بشمول بیماریوں کی وجہ سے نہ پہن سکنے پر بھی استثنائی حاصل ہوں گے۔ چہرے ڈھانپنے کی اشیاء کو آپ کی ناک، منہ اور ٹھوڑی کو ہر وقت ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔
- پیشک اگر آپ نے ماسک بھی پہن رکھا ہو، ٹرمینلز اور بس اسٹاپس پر جسمانی فاصلہ بندی کا خیال رکھیں۔
- سفر کے لیے اپنی ذاتی جراثیم کش اشیاء مثلاً ہینڈ سینیٹائزر یا تولیے وغیرہ اپنے ساتھ لائیں اور اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں۔
- اگر آپ بیمار ہیں، تو براہ کرم ٹرانزٹ پر سفر کرنے سے گریز کریں۔ اپنے قریب ترین کووڈ-19 اسپیسمنٹ سائٹیٹ پر ٹیسٹ کروائیں اور پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کریں۔

کووڈ-19 کے لیے حفاظتی اقدامات

صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کاروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 48 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر بسوں کو موجودہ طور پر ہر 24 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔

پیل پبلک ہیلتھ کی جانب سے ہدایت کے ساتھ، مسافروں کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ بسوں اور ٹرمینلز پر نان میڈیکل ماسک لازمی ہیں۔ خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے شراکت داروں پیل پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس کے ساتھ قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔

باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے www.brampton.ca/COVID19 ملاحظہ کریں www.bramptontransit.com یا سروس اپ ڈیٹس کے لیے [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) کو ٹویٹر پر فالو کریں۔ کسی قسم کے سوالات برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے 905.874.2999 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔

30--

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca